

دُرُود تاج

درود تاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ

رحمت نازل فرما جو صاحب تاج اور معراج

وَالْبُرَاقِ وَالْعِلْمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ

اور بُراق والے اور جھنڈے والے ہیں جن کے وسیلے

وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ

سے بلا وبا قحط مرض اور دکھ دور

إِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ

ہوتا ہے آپ کا نام نامی لکھا گیا بلند کیا گیا قبول شفاعت کیا گیا

مَنْقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ

اور لوح و قلم میں کھدا ہوا ہے آپ

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جُسْمُهُ مُقَدَّسٌ

عرب و عجم کے سردار ہیں آپ کا جسم نہایت مقدس

مُعْطَرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَ

نوشہبودار پاکیزہ اور خانہ کعبہ و حرم پاک میں

الْحَرَمِ شَسِيسُ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى

منور ہے آپ چاشت گاہ کے آفتاب اندھیری رات کے ماہتاب

صَدْرُ الْعُلَى نُورِ الْهُدَى كَهْفِ

بلندیوں کے صدر نشین راہ ہدایت کے نور مخلوق کی

الْوَرَى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَبِيلِ الشِّيمِ

جاتے پناہ اندھیروں کے چراغ نیک اطوار کے مالک

شَفِيحِ الْأَمَمِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ

آمتوں کے بخشوانے والے بخشش و کرم سے موصوف ہیں

وَاللَّهُ عَاصِمُهُ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ

اللہ آپ کا نگہبان جبریل آپ کے خدمت گزار

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفْرُهُ وَ

براق آپ کی سواری اور معراج آپ کا سفر اور

سُدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابُ قَوْسَيْنِ

سدرۃ المنتہی آپ کا مقام اور (قرب خداوندی) قاب قوسین کا

مَطْلُوبَةٌ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودَةٌ وَالْمَقْصُودُ

مرتبہ آپ کا مطلوب ہے اور مطلوب ہی آپ کا مقصود ہے اور مقصود

مَوْجُودَةٌ سَيِّدِ الرُّسُلِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

آپ کو حاصل ہے آپ رسولوں کے سردار نبیوں میں سب سے پیچھے

شَفِيحِ الْمَذْنِبِينَ أُنَيْسِ الْغُرَبَاءِ

آنے والے گنہگاروں کے بخشوانے والے مسافروں کے غمخوار

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ مُرَادُ

دنیا جہان کے لیے رحمت عاشقوں کی راحت مشتاقوں

الْمُشْتَاقِينَ شَمْسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ

کی مُراد خدا شناسوں کے آفتاب راہِ خدا پر

السَّالِكِينَ مَصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ مَرْجَبِ

چلنے والوں کے چراغ مقربوں کے راہنما ممتاحوں

الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدِ

غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے چن والے

الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

کے سردارِ حریمین کے نبی، دونوں قبلوں (سیت المقدس و کعبہ) کے پیشوا

وَسَيِّدَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

اور دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں وہ جو مرتبہ قاب قوسین پر فائز

مُحِبُّوْ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ

ہیں دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب ہیں

جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى

حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے جد امجد اور ہمارے اور تمام

الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

جن و انس کے آقا ہیں یعنی ابی قاسم محمد بن عبد اللہ

اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ يَأْتِيهَا الْمَشَاقِقُونَ

جو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں اے نورِ جمالِ محمدی

بَنُوْرٍ جَمَالِهِ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

کے مشاوق آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر

وَسَلِّمُوا وَسَلِّمًا

دُرود و سلام بھیجو جو بھیجنے کا حق ہے